


• الأسماء (من القرآن المجيد)

• الأفعال (من القرآن المجيد)



اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:255	2699	Allaah	اللہ	Allaah	اللہ	1
2:126	975	Lord	رب	Rabb	رَبُّ	2
2:11	461	Earth	زمین	Arz	أَرْضُ	3
11:5	383	Folk/ people	قوم	Qaum	قَوْمُ	4
2:118	382	Verse/ sign	نشانی / آیت	Aayah	آيَةٌ	5
2:116	358	All	سب	Kul	كُلُّ	6
2:87	332	Messenger	رسول	Rasool	رَسُولُ	7
1:3	325	Day	دن	Yaum	يَوْمُ	8
2:7	322	Punishment	عذاب	Azab	عَذَابُ	9
2:19	310	Sky	آسمان	Samaa'	سَّمَاءُ	10
2:48	295	Soul	نفس / جان	Nafs	نَفْسُ	11
2:20	283	Thing	چیز	Shay	شَيْءُ	12
2:2	260	Book	کتاب	Kitaab	كِتَابُ	13
2:42	242	Truth	حق	Haq	حَقُّ	14
114:1	241	Mankind	لوگ	Naas	نَاسُ	15
2:4	197	Before	پہلے	Qabl	قَبْلُ	16
2:8	195	Believer	مومن	Mu'min	مُؤْمِنٌ	17
2:108	176	Way	راستہ	Sabeel	سَبِيلُ	18
2:117	166	Matter	حکم / معاملہ	Amr	أَمْرُ	19
2:85	157	Part	بعض	Ba'z	بَعْضُ	20
2:54	148	Best	خیر / بھلائی	Khair	خَيْرُ	21
2:133	147	God	معبود	Ilaah	إِلَهُ	22
2:17	145	Fire	آگ	Naar	نَارُ	23
1:7	144	Not / Other	غیر	Ghair	غَيْرُ	24
2:165	135	Other than	سوائے	Doona	دُونُ	25

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:8	133	Last	آخر	Aakhir	آخِرٌ	26
2:27	133	After	بعد میں	Ba'd	بَعْدُ	27
2:97	132	Heart	دل	Qalb	قَلْبٌ	28
2:221	131	Slave	بندہ	Abd	عَبْدٌ	29
2:126	127	People	اہل	Ahl	أَهْلٌ	30
5:64	120	Hand	ہاتھ	Yad	يَدٌ	31
2:254	119	Disbeliever	کافر	Kaafiroon	كَافِرُونَ	32
2:157	114	Mercy	رحمت	Rahmah	رَحْمَةٌ	33
2:62	105	Reward	اجر / بدلہ	Ajr	أَجْرٌ	34
2:51	105	Wrongdoer	ظالم	Zaalim	ظَالِمٌ	35
2:32	105	Knowledge	علم	Ilm	عِلْمٌ	36
2:7	104	Great	عظیم / زبردست	Azeem	عَظِيمٌ	37
2:115	101	Knowing	جاننے والا	Aleem	عَلِيمٌ	38
2:35	96	Paradise	جنت	Jannah	جَنَّةٌ	39
2:132	92	Religion	دین	Deen	دِينٌ	40
2:59	92	Word	بات	Qaul	قَوْلٌ	41
6:8	88	Angel	فرشتہ	Malak	مَلَكٌ	42
2:17	87	Example	جیسا کہ طرح	Masal	مَثَلٌ	43
23:55	86	Wealth	مال	Maal	مَالٌ	44
4:45	86	Ally	ولی	Wali	وَلِيٌّ	45
2:2	85	Guidance	ہدایت	Huda	هُدًى	46
2:209	84	Wise	حکمت والا	Hakeem	حَكِيمٌ	47
2:64	84	Favor	فضل	Fazl	فَضْلٌ	48
2:3	83	Prayer	نماز	Salaah	صَلَاةٌ	49
2:51	82	Night	رات	Lail	لَيْلٌ	50

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:40	80	Children	بچے	Bani	بَنِي	51
2:36	80	Satan	شیطان	Shaitaan	شَيْطَانٌ	52
2:3	78	Companions	اصحاب / ساتھی	Ashaab	أَصْحَابٌ	53
2:100	78	Most	اکثر	Aksar	أَكْثَرُ	54
3:12	77	Hell	جہنم	Jahannam	جَهَنَّمَ	55
2:86	76	Life	حیات	Hayaat	حَيَاةٌ	56
2:200	76	Remember	ذکر	Zikr	ذِكْرٌ	57
39:6	76	Spouse	جوڑا	Zauj	زَوْجٌ	58
12:77	75	Brother	بھائی	Akh	أَخٌ	59
2:137	75	Same / Like	مثل	Misl	مِثْلٌ	60
3:146	75	Prophet	نبی	Nabi	نَبِيٌّ	61
112:1	74	One	ایک	Ahad	أَحَدٌ	62
47:15	74	Eternally	ہمیشہ رہنے والا	Khalid	خَالِدٌ	63
2:85	74	World	دنیا	Dunya	دُنْيَا	64
2:47	73	Worlds	جہانوں	Aalameen	عَالَمِينَ	65
2:10	72	Painful	درد ناک	Aleem	أَلِيمٌ	66
4:91	72	Clear	واضح	Mubeen	مُبِينٌ	67
11:9	71	Man	انسان	Insaan	إِنْسَانٌ	68
5:90	71	Work	عمل	Amal	عَمَلٌ	69
2:112	71	Face	وجہ	Wajh	وَجْهٌ	70
2:85	70	Resurrection	قیامت	Qiyaamah	قِيَامَةٌ	71
2:125	65	House	گھر	Bait	بَيْتٌ	72
16:48	65	Right	دائیں	Yameen	يَمِينٌ	73
2:133	64	Fathers / Forefathers	باپ دادا	Aabaa'	آبَاءٌ	74
2:128	64	Nation	امت	Ummah	أُمَّةٌ	75

اسماء (قرآن مجید)

Sl.no.	عربی	Roman	اردو ترجمہ	English	تعداد	حوالہ
76	ابن	Ibn	پٹا	Son	63	2:87
77	عَزِيزٌ	Azeez	عزت والا	Exalted in Might	63	2:220
78	مَاءٌ	Maa'	پانی	Water	63	4:43
79	صَالِحَاتٌ	Saalihaat	نیک	Righteous deeds	62	2:25
80	غَفُورٌ	Ghafoor	بخشنے والا	Forgiving	62	2:173
81	أَوَّلٌ	Awwal	پہلا	First	61	2:41
82	صَادِقٌ	Saadiq	سچا	Truthful	59	2:23
83	نِسَاءٌ	Nisaa'	عورتیں	Women	59	4:1
84	نَذِيرٌ	Nazeer	ڈرانے والا	Warner	58	2:119
85	عَيْنٌ	Aen	آنکھ	Eye	57	15:88
86	قَرْيَةٌ	Qaryah	گاؤں	Town	57	2:58
87	نَهَارٌ	Nahaar	دن	Day	56	2:164
88	وَلَدٌ	Walad	لڑکا	Child	56	3:47
89	بَيِّنَةٌ	Bayyinah	واضح نشانی	Clear evidence	55	6:157
90	رِزْقٌ	Rizq	رزق	Provision	55	2:60
91	نَهْرٌ	Nahar	نہر	River	54	54:54
92	جَمِيعٌ	Jamee'	سب	All	53	3:103
93	أَجَلٌ	Ajal	معین وقت	Stipulated time	52	6:2
94	خَلْقٌ	Khalq	مخلوق	Creation	52	23:17
95	سَوْءٌ	Soo'	برا	Bad	50	4:110
96	مَوْتٌ	Maut	موت	Death	50	2:19
97	نِعْمَةٌ	Ni'mah	نعمت	Favor	50	2:40
98	عَدُوٌّ	Aduw	دشمن	Enemy	49	2:97
99	غَيْبٌ	Ghaib	غیب	Unseen	49	2:3
100	مُتَّقِينَ	Muttaqeen	پرہیزگار	Cautious	49	2:2

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:8	1618	Said	کہا	Qaala	قَالَ	1
2:10	1358	Was	تھا	Kaana	كَانَ	2
2:196	537	Believed (with acceptance)	ایمان لایا	Aamana	ءَامَنَ	3
2:13	382	Knew	جانا	Alima	عَلِمَ	4
2:19	340	Made	بنایا	Ja'ala	جَعَلَ	5
2:6	289	Disbelieved/ Rejected	کفر کیا، انکار کیا	Kafara	كَفَرَ	6
2:71	278	Came	آیا	Jaa'a	جَاءَ	7
2:25	276	Worked / Acted	عمل کیا	Amila	عَمِلَ	8
9:19	271	Gave	دیا	Aataa	آتَى	9
2:55	271	Saw	دیکھا	Ra'aa	رَأَى	10
2:23	264	Came	آیا	Ataa	أَتَى	11
2:20	236	Wished	چاہا	Shaa'a	شَاءَ	12
2:21	184	Created	پیدا کیا	Khalaqa	خَلَقَ	13
17:105	183	Revealed	اتارا	Anzala	أَنْزَلَ	14
2:10	176	Denied	جھٹلایا	Kazzaba	كَذَّبَ	15
2:23	170	Invited / Prayed	بلایا / دعا کیا	Da'aa	دَعَا	16
2:201	166	Became Righteous	تقویٰ اختیار کیا	Ittaqaa	إِتَّقَى	17
2:143	144	Guided	ہدایت دیا	Hada	هَدَى	18
2:26	139	Intended / Desired	ارادہ کیا	Araada	أَرَادَ	19
2:38	136	Followed	اتباع کیا	Ittaba'a	إِتَّبَعَ	20
9:33	130	Sent	بھیجا	Arsala	أَرْسَلَ	21
3:81	127	Seized / Hold	پکڑا	Akhaza	أَخَذَ	22
2:51	124	Made	بنایا	Ittakhaza	إِتَّخَذَ	23
1:5	122	Worshipped	عبادت کیا	Abada	عَبَدَ	24
2:54	110	Oppressed	ظلم کیا	Zalama	ظَلَّمَ	25

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:61	106	Asked	پوچھا	Sa'ala	سَأَلَ	26
2:96	106	Found	پایا	Wajada	وَجَدَ	27
2:74	99	Brought forth/ Drive out	نکالا	Akhraja	أَخْرَجَ	28
2:35	93	Ate / Consumed	کھایا	Akala	أَكَلَ	29
2:113	89	No	نہیں	Laisa	لَيْسَ	30
2:24	88	Did	کیا	Fa'ala	فَعَلَ	31
2:50	87	Seen / Looked	دیکھا	Nazara	نَظَرَ	32
2:40	84	Remembered	یاد کیا	Zakara	ذَكَرَ	33
2:18	83	Became Afraid	ڈرا	Khaafa	خَافَ	34
2:54	83	Killed	قتل کیا	Qatala	قَتَلَ	35
2:18	79	Returned	لوٹا	Raja'a	رَجَعَ	36
2:75	78	Heard / Listened	سنا	Sami'a	سَمِعَ	37
9:123	78	Turned away	منہ پھیرا	Tawallaa	تَوَلَّى	38
2:27	77	Ordered / Commanded	حکم دیا	Amara	أَمَرَ	39
2:58	76	Entered	داخل ہوا	Dakhala	دَخَلَ	40
2:48	73	Compensed	بدلہ دیا	Jazaa	جَزَى	41
4:64	72	Obeded	اطاعت کی	Ataa'a	أَطَاعَ	42
4:163	72	Revealed	وحی کی	Auhaa	أَوْحَى	43
2:96	71	Associated a Partner	شرک کیا	Ashraka	أَشْرَكَ	44
2:20	71	Casted / Thrown / Inserted	ڈالا	Alqaa	أَلْقَى	45
2:268	70	Promised	وعدہ کیا	Wa'ada	وَعَدَ	46
3:16	68	Spent	خرچ کیا	Anfaqa	أَنْفَقَ	47
2:58	65	Forgave	بخش دیا	Ghafara	غَفَرَ	48
2:165	64	Loved / Liked	چاہا	Ahabba	أَحَبَّ	49
2:156	64	Stroked / Bestowed	لاحق ہوا	Asaaba	أَصَابَ	50

افعال (قرآن مجید)

Sl.no.	عربی	Roman	اردو ترجمہ	English	تعداد	حوالہ
51	أَضَلَّ	Azalla	گمراہ کیا	Misleded / Sent astrayed	64	2:108
52	تَابَ	Taaba	توبہ کیا	Repented / Turned	63	2:37
53	كَسَبَ	Kasaba	کمایا	Earned	62	2:79
54	نَزَّلَ	Nazzala	تھوڑا تھوڑا اتارا	Revealed slowly/ Revealed in stages	62	17:105
55	تلا	Talaa	تلاوت کیا	Recited	61	2:44
56	رَزَقَ	Razaqa	رزق دیا	Bestowed	61	2:3
57	قَضَىٰ	Qazaa	فیصلہ کیا	Judged / Decided	59	2:117
58	نَصَرَ	Nasara	مدد کیا	Helped	59	2:48
59	صَبَرَ	Sabara	صبر کیا	Patience Showed	58	2:61
60	جَرَىٰ	Jaraa	جاری ہوا	Flowed	57	2:61
61	مَسَّ	Massa	چھوا	Touched	56	2:80
62	ضَرَبَ	Zaraba	مارا	Beat/ Struck	55	2:26
63	قَاتَلَ	Qaatala	قتل کیا	Killed	54	2:54
64	أَقَامَ	Aqaama	ٹھہرایا	Established	54	2:20
65	خَرَجَ	Kharaja	نکلا	Departed / Left	53	2:74
66	ضَلَّ	Zalla	گمرا ہوا	Astrayed / Lost	53	2:108
67	بَعَثَ	Ba'asa	بھیجا	Sent	52	2:56
68	أَحْيَا	Ahyaa	زندہ کیا	Gave life	51	7:25
69	تَذَكَّرَ	Tazakkara	یاد کیا	Remembered	51	2:40
70	أَهْلَكَ	Ahlaka	ہلاک کیا	Destroyed	51	4:176
71	إِفْتَرَىٰ	Iftaraa	بہتان باندھا	Invented a lie	50	60:176
72	زَادَ	Zaada	زیادہ ہوا	Increased	49	2:10
73	عَقَلَ	Aqala	سمجھا	Understood	49	2:44
74	كَتَبَ	Kataba	لکھا	Wrote	49	2:79
75	ظَنَّ	Zanna	گمان کیا	Thought / Assumed	47	2:46

افعال (قرآن مجید)

Sl.no.	عربی	Roman	اردو ترجمہ	English	تعداد	حوالہ
76	شَكَرَ	Shakara	شکر کیا	Thanked	46	2:52
77	نَبَّأَ	Nabba'a	خبر دی	Informed	46	3:15
78	حَكَمَ	Hakama	فیصلہ کیا	Judged	45	2:113
79	تَرَكَ	Taraka	چھوڑا	Left / Forsaken	40	2:71
80	حَسِبَ	Hasiba	گمان کیا	Thought	44	2:214
81	شَهِدَ	Shahida	گواہی دی	Witnessed/Testified	44	2:84
82	مَلَكَ	Malaka	مالک ہوا	Possessed/Owned	44	4:3
83	نَادَى	Naada	پکارا	Called	44	68:21
84	أَنْذَرَ	Anzara	ڈرایا	Warned	44	2:270
85	أَدْخَلَ	Adkhala	داخل کیا	Admitted	42	2:58
86	سَبَّحَ	Sabbaha	تسبیح کی	Glorified	42	21:33
87	إِسْتَطَاعَ	Ista'taa'a	استطاعت رکھا	Became able	42	4:64
88	حَمَلَ	Hamala	اٹھایا	Carried	41	2:248
89	عَذَّبَ	Azzaba	عذاب دیا	Punished	41	2:284
90	عَلَّمَ	Allama	سکھایا	Taught	41	2:13
91	بِئْسَ	Bi'sa	ذلیل ہوا	To be wretched	40	2:126
92	بَلَغَ	Balagha	پہنچا	Reached	40	2:196
93	تَرَكَ	Taraka	چھوڑا	Left	40	2:17
94	خَشِيَ	Khashiya	ڈرا	Feared	40	2:150
95	أَرَى	Araa	دکھایا	Showed	40	2:55
96	إِسْتَغْفَرَ	Istaghfara	بخشش طلب کیا	Asked Forgiveness	40	2:58
97	إِسْتَكْبَرَ	Istakbara	غرور و تکبر کیا	Became Arrogant	40	4:6
98	إِهْتَدَى	Ihtadaa	ہدایت پا گیا	Received guidance	40	2:26
99	تَوَكَّلَ	Tawakkala	بھروسہ کیا	Trusted	40	3:122
100	حَرَّمَ	Harrama	حرام کیا	Forbade	39	2:173